



سرگرمی 9: درجہ حرارت محسوس کرنا #4

نوٹ: یہ سرگرمی صرف اس وقت کی جا سکتی ہے جب باہر کا درجہ حرارت کلاس روم کے درجہ حرارت سے بالکل مختلف ہو (یہ کام باہر جانے کے بجائے ایئر کنڈیشننگ یا حرارتی نظام کو بند کر کے اندر سے کیا جا سکتا ہے)۔



2. دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ اور چہرے کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کیا وہ ایک ہی درجہ حرارت محسوس کرتے ہیں یا مختلف؟ کیا یہ آرام دہ ہے یا غیر آرام دہ؟

1. ساکت کھڑے ہو کر، اپنی جلد پر ہوا کو محسوس کریں۔ کیا یہ گرم ہے، تھوڑا گرم، کم ٹھنڈا یا ٹھنڈا ہے؟



5. دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ اور چہرہ اب کیسا محسوس کرتے ہیں۔ کیا وہ ایک ہی درجہ حرارت محسوس کرتے ہیں یا مختلف؟ کیا یہ آرام دہ ہے یا غیر آرام دہ؟ آپ نے ہوا کے کون سے درجہ حرارت کو پسند کیا تھا؟

3. اب کچھ منٹ کے لیے باہر جائیں (یا 5 منٹ کے لیے ایئر کنڈیشننگ یا حرارتی نظام کو بند کر دیں)۔

4. ساکت کھڑے رہیں اور اپنی جلد پر ہوا کو محسوس کریں۔ کیا یہ گرم ہے، تھوڑا گرم، کم ٹھنڈا یا ٹھنڈا ہے؟

لوگ کسی خاص قسم کے موسم میں خاص قسم کے لباس کیوں پہنتے ہیں اور دوسری قسم کے نہیں؟ تمام ثقافتوں میں لباس اور درجہ حرارت سے متعلق ان کے ردعمل کو دریافت کریں۔

فالو آن سرگرمیاں: